

ڈیپازٹ پراڈکٹس کے لئے بنیادی حقائق اسٹیٹمنٹ

دورانیہ: جولائی - دسمبر، 2025

تاریخ:

برانچ کا نام اور کوڈ:

شہر:

اہم: اگر آپ نیا اکاؤنٹ کھلوانا چاہتے ہیں تو اس دستاویز کو بغور پڑھیں۔ یہ انگریزی اور اردو میں دستیاب ہے۔ آپ دوسرے بینکوں کے ذریعہ پیش کردہ مختلف اکاؤنٹس کا موازنہ کرنے کے لئے بھی اس دستاویز کا استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ کو موازنہ کے لئے دوسرے بینکوں سے کے ایف ایس وصول کرنے کا بھی حق حاصل ہے۔

اکاؤنٹ کی اقسام اور نمایاں خصوصیات:

یہ معلومات مندرجہ بالا تاریخ کے مطابق درست ہیں۔ سروسز، فیس اور مارک اپ ریٹ سال میں دوسرے کی بنیاد پر تبدیل ہو سکتے ہیں۔ فیس/چارجز کی جدید تفصیلات کیلئے، آپ ہماری ویب سائٹ یا اپنی قریبی ایم سی بی بینک برانچ وزٹ کر سکتے ہیں۔

تفصیلات	ایم سی بی نیو فارن کرنٹ اکاؤنٹ	ایم سی بی نیو فارن کرنسی سیونگز اکاؤنٹ	ایم سی بی اسارٹ فارن کرنسی اکاؤنٹ
کرنسی	امریکی ڈالر/برطانوی پاؤنڈ/یورو	امریکی ڈالر	امریکی ڈالر
کم سے کم بیلنس	(اکاؤنٹ کھلوانے کیلئے)	500 متعلقہ فارن کرنسی	500 متعلقہ فارن کرنسی
	(برقرار رکھنے کیلئے)	500 متعلقہ فارن کرنسی	500 متعلقہ فارن کرنسی
اکاؤنٹ مینیجمنٹ فیس (ٹیکس سمیت)	50 روپے ماہانہ کے برابر/ماہانہ اوسط بیلنس کی کمی	قابل اطلاق نہیں	قابل اطلاق نہیں
کیا منافع اکاؤنٹ میں دیا جاتا ہے	نہیں	ہاں (10,000 متعلقہ فارن کرنسی منافع کی اہلیت کے لیے)	ہاں
انڈیکسڈ منافع ریٹ (فیصد)	قابل اطلاق نہیں	بینک کی ریٹ شیڈ کے مطابق	بینک کی ریٹ شیڈ کے مطابق
ادائیگی منافع کا تناسب	قابل اطلاق نہیں	سال میں دوسرے	سال میں دوسرے
مثال	قابل اطلاق نہیں	اگر ہر 10,000 یو ایس ڈالر پر انڈیکسڈ منافع کا تناسب 1 فیصد ہے تو کسٹمر سال میں دو مرتبہ ٹوٹل 50 امریکی ڈالر منافع کما سکتا ہے۔	قابل اطلاق نہیں
قبل از وقت/جلد نقد رقم/واپسی کی فیس	قابل اطلاق نہیں	قابل اطلاق نہیں	قابل اطلاق نہیں
سروس چارجز:			
اہم: یہ اس اکاؤنٹ کے لئے اہم سروس چارجز کی ایک فہرست ہے۔ اس میں تمام چارجز شامل نہیں ہیں۔ بینک کا مکمل چارجز کا شیڈول آپ اپنی قریبی ایم سی بی بینک برانچ وزٹ کر کے یا بینک کی کارپوریٹ ویب سائٹ www.mcb.com.pk میں اسے 'کوئیک لنکس' سیکشن میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ برائے مہربانی نوٹ کر لیں کہ تمام بینک چارجز قابل اطلاق ٹیکس سے مستثنیٰ ہیں۔			
سروسز	طریقے	زیر	زیر
کیش ٹرانزیکشن	شہر کے باہر	زیر	زیر
	شہر کے اندر	زیر	زیر
	اپنے اپنے ٹی ایم سے نکلوانے پر	زیر	زیر
	دوسرے بینک کے اے ٹی ایم سے نکلوانے پر (ٹیکس سمیت)	قابل اطلاق نہیں	قابل اطلاق نہیں
ایس ایم ایس الرٹس	اے ڈی سی/ڈیجیٹل	زیر	زیر
	کلیئرنگ	230 روپے ماہانہ	230 روپے ماہانہ
	دیگر ٹرانزیکشنز کیلئے	230 روپے ماہانہ	230 روپے ماہانہ
ڈیپٹ کارڈز	پے پاک کلاسک	قابل اطلاق نہیں	قابل اطلاق نہیں
	پے پاک گولڈ	قابل اطلاق نہیں	قابل اطلاق نہیں
	ماسٹر کارڈ کلاسک	قابل اطلاق نہیں	قابل اطلاق نہیں
	ویزا اسلور	قابل اطلاق نہیں	قابل اطلاق نہیں
	ویزا گولڈ لوکل	قابل اطلاق نہیں	قابل اطلاق نہیں
	ویزا گولڈ	قابل اطلاق نہیں	قابل اطلاق نہیں
	ویزا گولڈ پلس	قابل اطلاق نہیں	قابل اطلاق نہیں
	ویزا پلانٹیم	قابل اطلاق نہیں	قابل اطلاق نہیں

ڈیپازٹ پراڈکٹس کے لئے بنیادی حقائق اسٹیٹمنٹ

تفصیلات	ایم سی بی نیوفارن کرنسی کرنٹ اکاؤنٹ	ایم سی بی نیوفارن کرنسی سیونگز اکاؤنٹ	ایم سی بی اسمارٹ فارن کرنسی اکاؤنٹ
چیک بک	17 روپے فی لیف	27 روپے فی لیف	
لوکل ری میٹینس	پیمنٹ کروانی ہو	600 پاکستانی روپے تک فی چیک	
بیرون ملک ری میٹینس	لوئر چیک	قابل اطلاق نہیں	
اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ	ٹرانزیکشنز کی رقم / تعداد کے حساب سے چارجز مختلف ہو سکتے ہیں۔ تفصیلات کے لئے، براہ کرم ایس او بی سی دیکھیں	ٹرانزیکشنز کی رقم / تعداد کے حساب سے چارجز مختلف ہو سکتے ہیں۔ تفصیلات کے لئے، براہ کرم ایس او بی سی دیکھیں	ٹرانزیکشنز کی رقم / تعداد کے حساب سے چارجز مختلف ہو سکتے ہیں۔ تفصیلات کے لئے، براہ کرم ایس او بی سی دیکھیں
فنز ٹرانسفر	سالا نہ	زیر	زیر
	ششماہی	زیر	زیر
	نقل	35 روپے	زیر
	اسے ڈی سی / ڈیجیٹل	ٹرانزیکشنز کی رقم / تعداد کے حساب سے چارجز مختلف ہو سکتے ہیں۔ تفصیلات کے لئے، براہ کرم ایس او بی سی دیکھیں	ٹرانزیکشنز کی رقم / تعداد کے حساب سے چارجز مختلف ہو سکتے ہیں۔ تفصیلات کے لئے، براہ کرم ایس او بی سی دیکھیں
	دوسرے		
ڈیجیٹل بینکنگ	انٹرنیٹ بینکنگ کی رکنیت (ایک بار / سالانہ)	زیر	زیر
	موبائل بینکنگ کی رکنیت (ایک بار / سالانہ)	زیر	زیر
کلیرنگ	نارٹل	زیر	زیر
	شہر کے باہر	528 روپے	528 روپے
	اسی دن	528 روپے	زیر
اکاؤنٹ کی بندش	کسٹمر کی درخواست	زیر	زیر

مزید جاننے

اکاؤنٹ کھولنے کے قحاضے: اکاؤنٹ کھولنے کے لئے آپ کو ریولیٹری ہدایات اور بینک کی انٹرنل پالیسیوں کے مطابق شناخت کی کچھ ضروریات کو پورا کرنا ہوگا۔ ان میں آپ کی شناخت کی تصدیق کے لئے دستاویزات اور معلومات فراہم کرنا شامل ہو سکتی ہے۔ وقتاً فوقتاً ایسی معلومات کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ برائے مہربانی مزید تفصیلات کے لئے ہم سے رابطہ کریں۔

چیک باؤنس: چیکس کا نامناسب استعمال کرنا پاکستان میں کریمینل عدالتی کارروائی 489-F کے مجرمہ مقدمے سے مشروط ہے۔ اسی لیے آپ کو پوری دانتندی کے ساتھ چیک لکھنا چاہئے۔

محموظ تھوئل: آپ کے اکاؤنٹ تک رسائی والے تمام آلات جیسے اے ٹی ایم کارڈز، پنز، چیکس، ای بینکنگ صارف کے نام، پاس ورڈز اور دیگر ذاتی معلومات وغیرہ کی محفوظ تھوئل آپ کی ذمہ داری ہے۔ صارف کی طرف سے سکیورٹی خراب ہونے کی صورت میں بینک کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جاسکتا ہے۔ ایم سی بی بینک لمیٹڈ کبھی بھی کال، ایس ایم ایس یا ای میل کے ذریعہ آپ کی ذاتی معلومات (پاس ورڈ، ڈیٹ / کریڈٹ کارڈ پن) نہیں مانگے گا۔ برائے مہربانی کسی کو بھی ایسی تفصیلات ظاہر نہ کریں۔

ریکارڈ اپ ڈیٹن: کسی بھی اہم مواصلات سے محروم ہونے سے بچنے کے لئے ہمیشہ بینک کے ساتھ اپنی پروفائلز / ریکارڈز کو اپ ڈیٹ رکھیں۔ اپنی معلومات کو اپ ڈیٹ کرنے کے لئے آپ اپنی ایم سی بی بینک برانچ یا ایم سی بی کال سنٹر سے رابطہ کر سکتے ہیں۔

اگر آپ اس اکاؤنٹ کو طویل عرصے تک استعمال نہیں کرتے ہیں تو کیا ہوگا؟

ایسے اکاؤنٹس جو ایک سال سے آپریٹ نہیں ہوئے ہیں جس کا مطلب ہے کہ گزشتہ ایک سال کے دوران کسی بھی صارف کی طرف سے اس میں ٹرانزیکشن یا کوئی سرگرمی نہیں ہوئی ہے اسے "ڈورمینٹ اکاؤنٹس" کے طور پر شمار کیا جائے گا یعنی آپ اپنے اکاؤنٹ کو دوبارہ فعال ہونے تک آپریٹ نہیں کر سکیں گے۔ ڈپازٹس / انسرفمنٹس، جو 15 سال کی مدت تک غیر فعال رہتے ہیں، غیر عویدار ہو جائیں گے اور بینکنگ کمپنیز آرڈیننس (BCO)، 1962 کے سیکشن 31 کی دفعات کے مطابق اسٹیٹ بینک آف پاکستان (SBP) کے حوالے کر دیے جائیں گے۔

ڈیپازٹ پراڈکٹس کے لئے بنیادی حقائق اسٹیٹمنٹ

غیر دعویدار ڈپازٹس: بینکنگ کمپنیز آرڈیننس 1962 کے سیکشن 31 کے مطابق تمام ڈپازٹس جو پچھلے پندرہ سالوں کے دوران آپریٹ نہیں کیے گئے ہیں، سوائے کسی نابالغ یا حکومت یا عدالتی عدالت کے نام پر جمع ہونے والے، متعلقہ بینکوں کی طرف سے قانون کی شرائط کے مطابق، بینکنگ کے بعد اسٹیٹ بینک آف پاکستان (SBP) کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ تاہم، غیر دعویدار زمرے میں آنے والے نامزد/ممنوعہ افراد/اداروں کے مجدد/معطل/بلاک اکاؤنٹس SBP سے پیٹنگلی منظوری حاصل کرنے کے بعد SBP کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ سرنڈر شدہ ڈپازٹس کا دعوئی متعلقہ بینکوں کے ذریعے کیا جاسکتا ہے۔ مزید معلومات کے لیے، براہ کرم اپنی MCB بینک برانچ یا MCB رابطہ مرکز سے رابطہ کریں۔ 111-000-622

اس اکاؤنٹ کو بند کرنے کیلئے: اپنا اکاؤنٹ بند کرنے کے لئے، برائے مہربانی اپنی برانچ وزٹ کریں اور اکاؤنٹ بند کرنے کا فارم پُر کریں۔ برائے مہربانی غیر استعمال شدہ چیک بک اور ڈیپازٹ کارڈ (اگر کوئی ہے) بینک کے حوالے کریں۔

آپ کس طرح رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں یا شکایت کر سکتے ہیں؟

ایم سی بی بینک لیٹنڈ، کمپلینٹ ریزولوشن یونٹ، 20 ویں منزل، ایم سی بی ٹاور،
I.I چندریگر روڈ، کراچی یا ایم سی بی سینٹر، چوتھی منزل، ایئر پورٹ ایکسیس روڈ، لاہور

ہیلپ لائن: 111-000-622

ای میل: info@mcb.com.pk

ویب سائٹ: www.mcb.com.pk

اگر آپ ہمارے جواب سے مطمئن نہیں ہیں، تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں:

45 دنوں سے زیادہ حل نہ ہونے والی شکایات کے لیے، آپ بینکنگ محتسب پاکستان، سیکرٹریٹ 5 ویں منزل، شاہین کمپلیکس، ایم آر کینی روڈ، کراچی کو درخواست لکھ سکتے ہیں۔

ٹیلی فون: +9221-99217334-8

فیکس: +9221-99217375، ای میل: info@bankingmohtasib.gov.pk

ویب سائٹ: www.bankingmohtasib.gov.pk

کسٹمر اور برانچ کے لئے اہم نوٹ:

تمام نئے بینک اکاؤنٹس کے ساتھ لازمی طور پر نیچے دیئے گئے سیکشن کا بھرنا ضروری ہے۔ اکاؤنٹ کھولتے وقت، بینک نمائندے اور کسٹمر کے دستخط شدہ کے ایف ایس کو صارف کے اکاؤنٹ کھولانے والے فارم کے ساتھ منسلک کیا جائے گا اور اکاؤنٹ کھولانے کے مکمل فارم اور کے ایف ایس کی نقل کو، صارف کو اس کے ریکارڈ اور معلومات کے لیے فراہم کیا جائے گا۔

میں اس کے ایف ایس کو سمجھتا اور مانتا ہوں		
کسٹمر کا نام	تاریخ:	
منتخب شدہ پراڈکٹ کا نام:		
اکاؤنٹ کا مینڈیٹ:	سنگل/جوائنٹ/سروائیور	
پتہ:		
رابطہ نمبر:	موبائل نمبر:	
ای میل ایڈریس		
کسٹمر کے دستخط	دستخط کی توثیق:	